

معلوم ہے مقبول پر بس جو پر پر پر پر پر پر پر

إِلَيْهِ يَرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا خَرَجَ مِنْ

قیامت تک ایک ایسا علم کسی کو ہے اور اس کے علم بغیر نہ کوئی جہل

شَرِبَتْ مِنْ أَمْوَالِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ

اپنے غلاف سے نکلتا ہے اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ

أَلَّا يَعْلَمَهُ وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُوا

جنتی ہے اور اس دن وہ ان (مشرکوں) کو ندا دیکر فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ کہیں

أَذْنَابُكَ مَا مِتْنَا مِنْ شَهِيدٍ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

کرتے کہ ہم تو تم کو اطلاع دے چکے کہ ہم میں نہ کوئی بھی رطب کی گواہی دینو الا نہیں ہے۔ اور جن چیزوں کو وہ سوس

يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مُخِيبٍ ۝

بھارا کرتے تھے اب وہ سب ان پر جاتی رہ گئی اور ان کو یقین ہو جائیگا کہ عمارے لیے کوئی چٹھکا رہا نہیں۔

لَا يَسْمُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ

انسان نیکی کی دعا (پانگنے) سے تو اگلتا ہی نہیں اور اگر اس کو کوئی تکلیف

الشَّرِّ فَيُقِيسْ قَنَاطٍ ۖ وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً

چھو جاتی ہے تو پادوس (اور) نامید ہو جاتا ہے۔ اور اگر بعد اس کے کہ مصیبت اسپر ہو چکی

مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَأٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا

ہو ہم اسکو اپنی رحمت کا مزا بھگادیں تو ضروری یہ کہیگا کہ اسکا تو میں سنی ہی تھا اور میرے

أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَّجَعْتَ إِلَىٰ رَبِّي لَأَن

خیال میں قیامت آنے ہی کی نہیں اور اگر میں اپنے پروردگار کی حضور میں لوٹا یا بھی گیا تو


لِي عِنْدَ الْكَافِرِينَ فَلَنَنْبِتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا

میرے لیے اس کے پاس (اس) اچھی حالت (موجود) ہے۔ پس جو لوگ کافر ہو گئے ہیں انکو ہم جو کچھ وہ کیکرتی

عَمِلُوا لَنُوَلِّدَنَّاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

ہیں ضرور جلائیے اور ان کو سخت عذاب کا فرہ ضرور بھجھائیے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ قیامت پر یقین نہ کرنا ہے کہ اگر بالفرض قیامت ہوتی بھی تو یہی میرے لیے خدا کی طرف سے



کی عزت اور نسبت بیکل اس لیکر کے اقتدار میں جو نعمت استیغنا کی ہوئی ہے وہ جو بھی دیکھتی تھی ان کے جو کو یاد ہاں میں اسکو حاصل ہوگا ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

مذکورہ

۱۱ شکر گاہی تفسیر قرآنی میں ہے کہ ان سے ارادہ میں نیکی لوگ خدا کے سوا پرشش کیا کرتے تھے ۱۱ ما مینا من شہید تفسیر صافی میں ہے کہ ایک

بہت سے لوگوں نے اس دعا کو پڑھا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ اس دعا کی تائید قرآن مجید میں بھی ہے۔

وَإِذَا نَعَّمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَابَ جَانِبَهُ ۚ

اور جب ہم نے انسان کو نعمت عطا کی تو اس نے (شکر سے) ارد گردانی کی اور (خود کو) اپنے ہی آپسے

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَرَدَّ عَائٍ عَرِيضٍ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

کی طرف مائل ہوا اور اگر اسے کوئی مصیبت چھو گئی تو لمبی چوڑی دعا والا بن گیا۔ تم کہدو کہ آیا تمہاری سمجھ میں

لَنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ

یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ (قرآن) خدا کی طرف سے ہے پھر تم اس کے شکر ہونے ہو تو جو بھی بڑھی ہوئی

مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۚ سَرُّهُمْ أَيْتَنَافِي

نافرمانی میں ہو اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق عالم

الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ آيَاتُ اللَّهِ

میں (دیکھی) کھلائیے اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائیگی کہ یہ حق ہے

أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ

کیا تمہارا پروردگار اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔

الْآيَاتُ هِيَ فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ الْآيَاتُ ۚ

خبردار رہو وہ اپنے پروردگار کی حضور میں جانے کے متعلق شک میں ہیں آگاہ رہو کہ وہ تمہارا پروردگار

بِجَلِّ شَيْءٍ مُُّحِبِّطٌ ۚ

ہر چیز کو (علم و قدرت سے) گھیرے ہوئے ہے۔

سورة الشولعی مکیہ تھی ثلاث وخمسون آیتا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رحمن (و) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

حَمْدٌ عَسَقٌ ۚ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ

تم۔ عسق۔ زبردست حکمت والا خدا اسی طرح تمہاری طرف وحی کرتا ہے

اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اس کی تائید قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس دعا کی تائید قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس دعا کی تائید قرآن مجید میں بھی ہے۔

بہت سے لوگوں نے اس دعا کو پڑھا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ اس دعا کی تائید قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس دعا کی تائید قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس دعا کی تائید قرآن مجید میں بھی ہے۔



مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

اور اسی طرح اُن کی طرف (کیا کرتا تھا) جو تم سے پہلے تھے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ تَكَادُ

اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہی اور وہی بلند مرتبہ والا اور عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان

السَّمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهَا وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ

(عظمت الہی کے خوف سے) اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کی تو

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۝

تسبیح کرتے رہتے ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں اُن کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں

إِلَّا أَنْ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَالَّذِينَ

آگاہ رہو کہ اللہ وہی تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۝ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ

اُس کو چھوڑ کر اور سرپرست بنا لیے ہیں خدا تعالیٰ اُن کا نگران ہے

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا

اور (اسے رسول) تم اُن کے ذمہ دار نہیں ہو اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف قرآن

إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ

عربی زبان بذریعہ وحی بھیجا تاکہ تم خاص مکہ اور اُس کے ارد گرد کے رہنے والوں کو

حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَرَبِ فِيهَا ۝

ڈراؤ اور قیامت کے دن سے ڈراؤ جس کے بارے میں کچھ شک نہیں ہے

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝ وَلَوْ شَاءَ

ایک گروہ اُس دن جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور اگر اللہ

اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۝ وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ

چاہتا تو اُن سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ تو جس کو چاہتا ہے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'تذکرہ' (Index) on the left side.

بہت سے لوگ اس آیت کو سمجھنے میں توفیق نہ پا رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے کئی کئی جگہ پر تفسیر کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے کئی کئی جگہ پر تفسیر کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے کئی کئی جگہ پر تفسیر کی ہے۔

نِشَاءٍ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَرَثٍ

اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور ظالموں کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور

وَلَا نَصِيرٌ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ فَاللَّهُ

نہ کوئی مددگار یا انہوں نے اسے چھوڑ کر اور سرپرست بنالیے ہیں۔ حالانکہ اللہ

هُوَ الْوَلِيُّ ۖ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

وہی تو سرپرست ہی اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر پوری پوری قادر و قادر العظیم ہے۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ

اور جس کسی چیز میں تم اختلاف کرو پس اس کا فیصلہ اللہ ہی پر ہے وہی اللہ

اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ فَاطِرُ

میرا پروردگار ہے اسی پر میں سنبھروسکیا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں آسمانوں کا اور

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

زمین کا پیدا کر نیوالا جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذات سے جوڑے

أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ آزْوَاجًا يَدْرَأُكُمْ فِيهِ

بنادے اور جو پایوں میں سے بھی جوڑے جوڑے بنا دیں اسی میں وہ مگھوڑھاتا ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ

کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے اور وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے آسمانوں کی

مَقَالِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا

نِشَاءٍ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ شَرَعَ لَكُمْ

ہے اور (جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بیشک وہ ہر چیز سے پورا پورا آگاہ ہے۔ تمہارے

مِنَ الدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

یہ دین کی آخوری باتیں تم کو جس جلی بابت آسمانوں کو وحیت کی تھی اور لاؤ گے اس کی بابت تمہاری طرف

اور اسے بھی دیکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے کئی کئی جگہ پر تفسیر کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے کئی کئی جگہ پر تفسیر کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے کئی کئی جگہ پر تفسیر کی ہے۔

وَج

کلمن

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
وہی کی پروردگی بابت ہے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہ دین کو قائم

الَّذِينَ وَلَا تَفْرَقُوا فِيهِ دِكْرًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ
رکھو اور اُس کے بارے میں فرمے فرمے نہ بن جاؤ۔ مشرکوں پر وہ امر کی طرف تم ان کو

مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ط اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ
جگاتے ہو بہت ہی گراں گزرا اللہ اُس امر کے لیے جس کو چاہتا ہے مقرب فرماتا ہے

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ط وَمَا تَقْرَأُ إِلَّا
اور توفیق ہدایت اسی کو عطا کرتا ہے جو اُس کی طرف رجوع کرے۔ اور بعد اسکے کہ اُنکے پاس علم

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط وَلَوْ لَا
اچکا تھا وہ تمہیں آپس کے حسد کے باعث فرقہ فرقہ بننے اور اگر تمہارے پروردگار

كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى لَتَقْضَى
کی طرف سے ملت کا حکم ایک مدت معینہ کے لیے نہ ہو چکا ہوتا تو اُنکے مابین (کبھی کا) فیصلہ

بَيْنَهُمْ ط وَلَئِنَّ الَّذِينَ أُوْرثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ
ہو چلتا اور بیشک جن لوگوں کو اُنکے بعد کتاب کا وارث کیا گیا وہ لڑجنگ

لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ط فَلْيَاذِكِ فَادْعُوا وَاسْتَقِيمُوا
اسکے بارے میں شک ہی میں ہے جو انہیں انوارِ اول کی ہو رہی ہے۔ پس اسی رسول تم اسی کی طرف منگولیاں جاؤ اور

كَمَا أُمِرْتُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ هُمْ وَقُلْ أَمْرًا
جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے وہی قائم رہو اور اُنکی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور یہ کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب

يَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمْرًا لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ
نازل کی ہے میں اُس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مابین اہل کتاب کو

اللَّهُ رَبَّنَا وَرَبُّكُمْ ط لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ط لَاحِجَّةٍ
اور تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی ہے اعمال تمہاری ہے اور تمہارے اعمال تمہاری ہے تمہارا اور تمہارے

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
وہی کی پروردگی بابت ہے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہ دین کو قائم رکھو اور اُس کے بارے میں فرمے فرمے نہ بن جاؤ۔ مشرکوں پر وہ امر کی طرف تم ان کو جگاتے ہو بہت ہی گراں گزرا اللہ اُس امر کے لیے جس کو چاہتا ہے مقرب فرماتا ہے اور توفیق ہدایت اسی کو عطا کرتا ہے جو اُس کی طرف رجوع کرے۔ اور بعد اسکے کہ اُنکے پاس علم اچکا تھا وہ تمہیں آپس کے حسد کے باعث فرقہ فرقہ بننے اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ملت کا حکم ایک مدت معینہ کے لیے نہ ہو چکا ہوتا تو اُنکے مابین (کبھی کا) فیصلہ ہو چلتا اور بیشک جن لوگوں کو اُنکے بعد کتاب کا وارث کیا گیا وہ لڑجنگ اسکے بارے میں شک ہی میں ہے جو انہیں انوارِ اول کی ہو رہی ہے۔ پس اسی رسول تم اسی کی طرف منگولیاں جاؤ اور جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے وہی قائم رہو اور اُنکی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور یہ کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اُس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مابین اہل کتاب کو اللہ ربنا و ربکم ط لانا اعمالنا و لکم اعمالکم ط لاحیجۃ اور تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی ہے اعمال تمہاری ہے اور تمہارے اعمال تمہاری ہے تمہارا اور تمہارے

بقرہ

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
وہی کی پروردگی بابت ہے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہ دین کو قائم رکھو اور اُس کے بارے میں فرمے فرمے نہ بن جاؤ۔ مشرکوں پر وہ امر کی طرف تم ان کو جگاتے ہو بہت ہی گراں گزرا اللہ اُس امر کے لیے جس کو چاہتا ہے مقرب فرماتا ہے اور توفیق ہدایت اسی کو عطا کرتا ہے جو اُس کی طرف رجوع کرے۔ اور بعد اسکے کہ اُنکے پاس علم اچکا تھا وہ تمہیں آپس کے حسد کے باعث فرقہ فرقہ بننے اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ملت کا حکم ایک مدت معینہ کے لیے نہ ہو چکا ہوتا تو اُنکے مابین (کبھی کا) فیصلہ ہو چلتا اور بیشک جن لوگوں کو اُنکے بعد کتاب کا وارث کیا گیا وہ لڑجنگ اسکے بارے میں شک ہی میں ہے جو انہیں انوارِ اول کی ہو رہی ہے۔ پس اسی رسول تم اسی کی طرف منگولیاں جاؤ اور جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے وہی قائم رہو اور اُنکی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور یہ کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اُس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مابین اہل کتاب کو اللہ ربنا و ربکم ط لانا اعمالنا و لکم اعمالکم ط لاحیجۃ اور تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی ہے اعمال تمہاری ہے اور تمہارے اعمال تمہاری ہے تمہارا اور تمہارے

ببینا و بینکم و اللہ یجمع بیننا و لیبہ المصدیہ
 ماہین کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ (قیامت کو دن) ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کی ہمارا گشت ہوگی۔
 وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ
 اور جو لوگ (دین) خدا کے بارے میں کچھ جتنی کچھ جاتے ہیں بعد اسکے کہ اس کی بات (خلق میں ایمان کی گواہی)
 حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب و لہم
 ان کی حجت اٹکے پروردگار کے نزدیک لغزش میں ہے اور ان پر غضب ہوگا اور ان کے لیے
 عذاب شدیدہ اللہ الذی انزل الکتب بالحق
 سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اُتارا
 وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكْرِيهًا
 اور میزان (کو) بھی اور تمہیں کیا خبر ہے شاید قیامت قریب ہی ہو۔
 يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
 اسکی نسبت جلدی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اُسپر ایمان نہیں لائے اور جو ایمان لائے ہیں
 وَشَاقِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ الْأَلَان
 وہ تو اس سے ڈرنے والے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے آگاہ رہو کہ جو
 الَّذِينَ يَمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لِيُضِلُّوا بِعِبَادِ اللَّهِ
 لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں (وہ) بیشک بڑی گمراہی میں ہیں اللہ پر
 لَطِيفٌ يُعْبَادُهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ
 کل بندوں پر بہت ہی مہربان ہے جسے (جسے) چاہتا ہے (جس سے) طرح چاہتا ہے اور نفع عطا فرماتا ہے۔ اور وہ بڑا
 الْعَزِيزُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَلَهُ فِي
 قوت والا (اور) زبردست ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو خوب بڑھا دیتے
 حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ
 اور جو دنیا کی خرمن چاہتا ہے تو ہم اُسکو اسی میں سے دیدیتے اور اسکا

ببینا و بینکم و اللہ یجمع بیننا و لیبہ المصدیہ
 ماہین کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ (قیامت کو دن) ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کی ہمارا گشت ہوگی۔
 وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ
 اور جو لوگ (دین) خدا کے بارے میں کچھ جتنی کچھ جاتے ہیں بعد اسکے کہ اس کی بات (خلق میں ایمان کی گواہی)
 حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب و لہم
 ان کی حجت اٹکے پروردگار کے نزدیک لغزش میں ہے اور ان پر غضب ہوگا اور ان کے لیے
 عذاب شدیدہ اللہ الذی انزل الکتب بالحق
 سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اُتارا
 وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكْرِيهًا
 اور میزان (کو) بھی اور تمہیں کیا خبر ہے شاید قیامت قریب ہی ہو۔
 يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
 اسکی نسبت جلدی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اُسپر ایمان نہیں لائے اور جو ایمان لائے ہیں
 وَشَاقِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ الْأَلَان
 وہ تو اس سے ڈرنے والے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے آگاہ رہو کہ جو
 الَّذِينَ يَمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لِيُضِلُّوا بِعِبَادِ اللَّهِ
 لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں (وہ) بیشک بڑی گمراہی میں ہیں اللہ پر
 لَطِيفٌ يُعْبَادُهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ
 کل بندوں پر بہت ہی مہربان ہے جسے (جسے) چاہتا ہے (جس سے) طرح چاہتا ہے اور نفع عطا فرماتا ہے۔ اور وہ بڑا
 الْعَزِيزُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَلَهُ فِي
 قوت والا (اور) زبردست ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو خوب بڑھا دیتے
 حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ
 اور جو دنیا کی خرمن چاہتا ہے تو ہم اُسکو اسی میں سے دیدیتے اور اسکا

ببینا و بینکم و اللہ یجمع بیننا و لیبہ المصدیہ
 ماہین کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ (قیامت کو دن) ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کی ہمارا گشت ہوگی۔
 وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ
 اور جو لوگ (دین) خدا کے بارے میں کچھ جتنی کچھ جاتے ہیں بعد اسکے کہ اس کی بات (خلق میں ایمان کی گواہی)
 حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب و لہم
 ان کی حجت اٹکے پروردگار کے نزدیک لغزش میں ہے اور ان پر غضب ہوگا اور ان کے لیے
 عذاب شدیدہ اللہ الذی انزل الکتب بالحق
 سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اُتارا
 وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكْرِيهًا
 اور میزان (کو) بھی اور تمہیں کیا خبر ہے شاید قیامت قریب ہی ہو۔
 يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
 اسکی نسبت جلدی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اُسپر ایمان نہیں لائے اور جو ایمان لائے ہیں
 وَشَاقِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ الْأَلَان
 وہ تو اس سے ڈرنے والے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے آگاہ رہو کہ جو
 الَّذِينَ يَمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لِيُضِلُّوا بِعِبَادِ اللَّهِ
 لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں (وہ) بیشک بڑی گمراہی میں ہیں اللہ پر
 لَطِيفٌ يُعْبَادُهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ
 کل بندوں پر بہت ہی مہربان ہے جسے (جسے) چاہتا ہے (جس سے) طرح چاہتا ہے اور نفع عطا فرماتا ہے۔ اور وہ بڑا
 الْعَزِيزُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَلَهُ فِي
 قوت والا (اور) زبردست ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو خوب بڑھا دیتے
 حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ
 اور جو دنیا کی خرمن چاہتا ہے تو ہم اُسکو اسی میں سے دیدیتے اور اسکا

فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ أَشْرَعُوا
آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا آیا انکے کوئی شریک ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے

لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَوَلَوْ لَا كَلِمَةٌ
دین کے لیے قواعد مقرر کر دیے ہوں جنکا خدا نے حکم نہیں دیا اور اگر فیصلہ کی بات نہ ہو گئی

الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ
ہوتی تو انکے مابین کبھی کاجھگڑتا ہو گیا ہوتا اور بیشک نافرمانوں کے لیے دردناک عذاب ہے

الَّذِينَ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ
تم نافرمانوں کو دیکھو گے کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں اُس سے ڈرتے ہیں حالانکہ انکا

وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
وہاں ان پر پڑتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ

رَوَّضَتْ الْجَنَّةَ لَهُمْ مَا يُشَاءُونَ وَنَعْدًا رَبُّهُمْ
بشت کے جنوں میں ہونگے انکے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے پروردگار کے پاس (میتا) ہے۔

ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝ ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ
یہی تو وہ بڑا فضل ہے یہی تو وہ ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو

عِبَادَةَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ
ایمان لائے اور نیک عمل بجلائے خوشخبری دیتا ہے تم یہ کہدو کہ میں تو اس

عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ
راہنچ رسالت کے نام سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا مگر اپنی قربت داروں کی محبت اور جو اس (کے بار) میں

حَسَنَةً تَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَاتٍ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝
کوئی نیک ہی کرے اسکی خاطر سے ہم اسکی نیک ہی کو بہت بڑھا دیتے بیشک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدر دان ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ
یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے پس اگر اللہ چاہے تو تمہارے دلوں پر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and translations.

عَلَى قَلْبِكَ وَيَوْمَ يَوْمِ اللَّهِ الْبَاطِلُ وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ط

مگر گارے حلاکہ اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو حق ثابت کرتا ہے

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ط

بیشک وہ دلوں کی حالت سے پرہور اور آگاہ ہے۔ اور وہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول

عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ط

کرتا ہے اور ان کی بدکاریاں معاف کرتا ہے اور جو کچھ تم کیا کرتے ہو وہ جانتا ہے

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ ط

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجالائے ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کے حق میں اپنا

مَنْ فَضْلَهُ ط وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

فضل اور کم بڑھادیتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ط

اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق بڑھادیتا تو وہ زمین میں ضرور بغاوت کرتے

وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ط إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ ط

مگر وہ تو ایک انداز سے جو کچھ چاہتا ہے اتنا نازل کرتا ہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں کے حال سے پرہور اور آگاہ ہے

بَصِيرٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا

(اور) آسمانی دیکھ بھال کر نوا لایا۔ اور وہ وہی تو ہے جو بعد اس کے کہ وہ مایوس ہو چکے ہوں بارش نازل کرتا

قَطُّوْا وَيُنْشُرُ رَحْمَةً ط وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝ وَمِنْ

اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی سرپرست (اور) سزاوار حمد ہے۔ اور اس کی

آيَتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ

نشانیوں میں سے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا بھی ہے اور جتنے چھتے پھر نیا آسمان و زمین میں آگیا

دَاتٍ ط وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْتِيهِمْ قَدِيرٌ ۝ وَمَا

(پیدا کرنا بھی) اور جس وقت وہ چاہے آئے جمع کر لینے پر پرہور اور آگاہ ہے۔ اور جو

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'کلمہ' (Kalma) and various religious commentary.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا

مصیبتی انکو پہنچی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے حالانکہ اللہ بہت کچھ

عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ

سماں کرتا رہتا ہے اسیا وجودیکہ تم زمین میں عاجز کرنا نہیں ہو (پھر تکبر کرتے ہو) اور اللہ سوا نہ تمہارا

مَنْ دُونَ اللَّهِ مِنْ قَوْلِي وَلَا نَصِيرٌ وَمَنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ

کوئی سر پرست ہے اور نہ کوئی مددگار اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر

فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَن

میں ہمارے جیسے جہاز ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ جہاز ہی ہندگی

رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ

سخت پر کھڑے (کے کھڑے) رہ جانے میں اس میں ہر اس شخص کے لیے جو صبر و شکر کرنا والا ہے نشانیاں

شَاكِرٍ أَوْ يُوَفِّقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ

موجود ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو ان کی سوارئیں کو بوجھانے کے کرتوتوں کو ہٹا کر دیں حالانکہ بہت سی باتوں کو درگزر کرتا ہے

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُحَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ

اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا

مُحِصٍ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

نہیں ہے۔ پس جو چیز بھی تم کو دی گئی ہے یہ تو زندگی دنیا کا سراپہ ہے

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے اگر آپ انکو جو ایمان لائے ہیں اور اللہ

يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يُمْتَنِعُونَ كَيْدَ الْأَشْمُرِ

پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور جو سبوتاہوں سے اور جھیلانی کی باتوں سے بچتے رہتے

الْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ

ہیں اور جب انکو غصہ آجاتا ہے تو وہ بخشتے ہیں اور جو اپنے

Vertical marginal notes on the left side of the page, containing various religious and philosophical reflections.

بِعَرَضٍ عَلَيْهِمْ خَشْيَتُهُمْ مِنَ الذَّلِيلِ يُنظَرُونَ مِنْ

وہ دوزخ کے سنیے بلائے جائینگے اس حال میں کہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں اور (چوری کیجی)

طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخٰسِرِينَ

نظر آن دیجئے ہات ہو گئے اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہونگے کہ حقیقی نقصان نقصان نقصان ہوا

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَسْفٰلِينَ

وہ ہیں جنہوں نے قیامت کو دن اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا اور اپنے عزیزوں کو بھی آگاہ رہو کہ

إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ

ظالم ردائی عذاب میں رہینگے اور اللہ کے سوا انکے لیے کوئی ایسے

أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَ وَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ

اور کاساز نہ ہونگے جو ان کی نصرت کریں اور جس سے خدا تو تین ہدایت سلب کر لے

فَسَالَهُ مِنْ سَبِيلٍ اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ

اسکے لیے کوئی (ہدایت و نجات) کی راہ نہیں۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کا امتنا خدا کی طرف سے تقریریں کرے

يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكُلِّ سُلُطٰنٍ مَا كَسَبَتْ يَدَاؤُهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ

تم اپنے پروردگار کا حکم مانو اس دن نہ تو تمہارے لیے کوئی جائے پناہ

فَسَالَهُ مِنْ سَبِيلٍ اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ

ہوگی اور نہ اس دن تمہارا کوئی انکار چل سکیگا۔ اس پر بھی اگر وہ رد گرداں ہوں تو جتنے

ارْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا لَنْ عَلَيْكَ إِلَّا إِلَهُ مَوْجِدٍ

تم کو انکا محافظ بناکر انہیں بھیجا تمہارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور

لَا تَأْتِيهِمْ فِي الْحَيٰوةِ الْآلِهَةُ بِالْحَيٰوةِ الْآلِهَةُ بِالْحَيٰوةِ الْآلِهَةُ بِالْحَيٰوةِ

ہم جب انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس خوش ہوتا ہے اور اگر ان کو

تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

انہی کی گرفت کی بدولت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان (اس کے بارے میں) بڑا ہی ناشگرا

میں سے اس لیے نرسوت کا زمانہ چکھا تو تیرا بیٹا ہے بخشن لیکن کھینچ کے چھ بجے بڑا صاف جان کی گئی ہے۔ اور دوسرے کی بڑا کا نام تمام جیسے غارت خان کنوڑی قول مترجم۔ اس سے بھی

استعمل

لَا تَأْتِيهِمْ فِي الْحَيٰوةِ الْآلِهَةُ بِالْحَيٰوةِ الْآلِهَةُ بِالْحَيٰوةِ الْآلِهَةُ بِالْحَيٰوةِ

كفورهم لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء

ہو جاتا ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے (اسلم) ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے

يهب لمن يشاء لانا و يهب لمن يشاء الذكور

جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عنایت فرماتا ہے

اويز وجهم ذكر انا و لانا و يجعل من يشاء عقبا

یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں جوڑ داتا ہے اور جسکو چاہتا ہے باجمہ کر دیتا ہے

انته عليهم قدير و ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا

بیشک تم صاحب علم (اور صاحب قدرت) ہو اور کسی بشر کی یہ منزلت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے کہ

او من وراي حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه

وحی کے ذریعے سے ہو یا جس پر وہ سے یا کسی رسول کو بھیجے پھر جو چاہے اپنے حکم سے اسکو وحی

ما يشاء طرته على حكيم و كذلك اوحينا اليك

پہنچائے بیشک وہ بلند مرتبہ (اور) حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے روح الامین کو

روحامن امر نلاما كنت تدري ما الكتب ولا الامن

تمہاری طرف وحی (کسا کسا) بھیجا (جسکے لینے) تم یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ (تعلیم) ایمان کیا چیز ہے

ولكن جعلناه نورا اهدى به من يشاء من عباده

لیکن ہم نے اسکو ایک نور قرار دیا جسکے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسکو چاہیں ہدایت کریں

وانك لتهدى الى صراط مستقيم صراط الله

اور بیشک تم راہ راست کی طرف ہدایت کرتے ہو یعنی اس اللہ کی راہ کی طرف

الذي له ما في السموات وما في الارض الا

کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے آگاہ ہو کہ

لا اله الا الله تصير الامور

تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہوگی

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'الشمس' written vertically on the right side.

سورة الزخرف مكية وهي تسعة وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن (و) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

حَمْدًا ۞ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا

مقرآن۔ تمہارے واسطے کتاب کی بیکہم نے اس کو عربی قرآن مقر

عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّا فِي آيَةِ الْكِتَابِ لَوَاقِنَّا

کیا تاکہ تم سمجھو۔ اور بیشک وہ ہمارے پاس آہ کتاب میں ضرور بالمشان

لَعَلَّكُمْ تَحْكُمُونَ ۞ أَفَضْرَبُ عَنْكُمْ الذِّكْرُ صَفْحًا أَنْ

(اور) صحت والا ہے۔ کیا ہم نصیحت کو تم سے (باہل) باہر دیکھنے (اسی وجہ سے) کہ

كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۞ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ

تم حد سے زیادہ بدکار ہو گئے ہو۔ اور ہم نے پہلوں میں کتنے ہی نبی بھیجے۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَاهْلَكْنَا

اور ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ ضرور اسکی ہنسی اڑا دیتے تھے۔ پھر ہم نے ان کو جو

أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مِثْلَ الْأَوَّلِينَ ۞ وَلَئِنْ

وقت میں سب سے بڑے ہوئے تھے ہلاک کیا اور پہلوں کی مثل جاری ہو گئی۔ اور اگر تم

سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ۞

ان سے یہ کہو چوگے کہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کس نے کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ

خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ

انکو جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش مقرر

مَهْدًا ۞ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞

کیا اور اس میں تمہارے لیے راستے مقرر کر دیے تاکہ تم راہ پاؤ۔



الذکر

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'میں' (Mein) and other commentary.

Main body of handwritten Urdu text providing commentary on the verses of Surah Zukhruf.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page.

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ بِهِ فَأَنْشُرْنَا بِهِ بَلْدًا مَرَّةً

اور جس نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی اتارا پھر ہم نے اُسکے ذریعے سے مرہ زمین کو

مَيِّتًا كَذَلِكَ مَخْرُجُونَ ۝ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

زندہ کر دیا اسی طرح تم کو بھی لا قبروں سے نکال جاؤ گے۔ اور جس نے ہر قسم کے جوڑے جوڑے پیدا کیے

كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝

اور تمہارے لیے کشتیاں اور چربائے مقرر کر دیے جن پر تم سوار ہوتے ہو

لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ ۝ وَإِنَّمَا تَرَكُنَّ مَرْجَمًا إِذِ السُّوَيْمِيُّ

تاکہ تم اُن کی پیٹھوں پر درست ہو بیٹھو پھر جب تم اُن پر درست بیٹھ جاؤ تو اپنی پروردگار کی نعمت کو

عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ

یاد کرو اور یہ کہو کہ منزہ ہے وہ جس نے اس کو ہمارا مطیع کر دیا حالانکہ ہم میں اسکی (قابو میں لائیں)

مُقَرَّبِينَ ۝ وَإِنَّا لَآلِي رَبِّنَا الْمُنْقَلِبُونَ ۝ وَجَعَلُوا آلَهُ

حافظ نہ تھی۔ اور بیشک ہم اپنے پروردگار کی حضور میں پلٹ کر جانوالے ہیں۔ اور انہوں نے اُسکے

مِن عِبَادِهِ جُزْءًا اطْرَافَ الْإِنْسَانِ لَكُفُورٍ مُّبِينٍ ۝

بندوں میں سے بعض کو اسی کا ایک جزو (یعنی اولاد) بنا دیا بیشک انسان کھلا ناشکر ہے۔

أَمِ اتَّخَذُوا مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ ۝ وَإِذَا

یا جو کچھ وہ پیدا کرتا ہے اُس میں سے بیٹیاں تو اُنہیں اور بیٹوں سے تم کو بوازا۔ حالانکہ جہاں

بَشَرًا أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ

کوسو کو اُس (یعنی بیٹی) کی اشارت دی جاتی ہے جسکی وہ (خدا کے) رحمن کے لیے مثل بیان کرتا تھا تو ہمارے

مَسْوَدٌ أَوْ هُوَ كَظِيمٍ ۝ أَوْ مَنْ يَنْشُرُونَ فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ

سختی کے اُسکا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آیا وہ جو زور (وزنیت) میں پرورش کیا جائے اور وہ

فِي الْخِصَامِ غَيْرِ مُبِينٍ ۝ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ

حجت میں کچھ نہ کہنے (خدا کے لیے پھر اگتے ہیں) اور انہوں نے فرشتوں کو جو (خدا کے) رحمن کے

کے

ص ۷۸۲

تاریخ

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'العیہ یرو' and other annotations.

Vertical handwritten notes on the right side of the page, providing commentary on the verses.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

عنه ولا تظن انهم يريدون تصغيرتان فيهما انهما ابوابهما لا ذكرا من اسمايت سے لایا گیا ہے کہ وہ خود کریں کہ انہوں نے

عبد الرحمن انانا واشهدوا خلقهم طستكتو

بندے میں بیشیاں قرار دیدیا آیا وہ انکی پیدائش کے وقت موجود تھے بہ مغرب انکی گواہی تھی

شهادتهم ويسئلون ○ وقالوا الوشاء الرحمن ما

جائیں اور ان سے باز پرس کی جائیگی۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر (ضائے) رحمن چاہتا تو ہم انکی

عبدنهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون

عبادت نہ کرتے انکو اسکا کوئی علم نہیں ہے وہ تو محض اٹھل پتھل باتیں بناتے ہیں۔

ام اتينهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ○ بل

پاہم نے ان کو پہلے سے کوئی کتاب دی ہے جس کو وہ مضبوط پکڑے ہوئے ہیں و بلکہ

قالوا اننا وجدنا آباءنا على امة وانا على اشرهم

انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جچھتیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم تو انہی کے قدم بہ قدم

مھتدون ○ وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية

چلے جائینگے۔ اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں کوئی ڈرانہ والا بھیجا تو اُسکے دو ہنڈوں

من تدبر الا قال مترفوها لانا وجدنا آباءنا على امة

نے یہی کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم تو انہی کے

وانا على اشرهم مقتدون ○ قل اولو جنتكم باكم

قدم بہ قدم چلے جائینگے۔ (اُس ڈرانہ والے نے یہ) کہا کہ جس طریقے پر تم نے اپنی باپ دادا کو پایا تھا

فما وجدتم عليه آباءكم قالوا لانا بما ارسلتم به

اگر میں اُس سے زیادہ سیدھا طریقہ لیکر آیا ہوں تو کوئی ہنڈوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ تم کو دیکھا گیا ہے اُسکے گوہم

كفرون ○ فانقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة

مردوں کے ہیں۔ پس ہننے ان سے بھی سیدھا لیا پھر دیکھ لو کہ ان جھٹلانہ والوں کا انجام

المكذبين ○ ولذ قال لبرهيم لا بيده وقومها انتي

کیا ہوا۔ اور (اُس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ (یعنی چچا) سے لودہائی قوم کی یہ کہا کہ جن

کس طرح تبرک کیا۔ اور یہ ان دو دلیل سے کیا تم تک فرمایا۔ لہذا قریش کو اگر تعلیم کرنی ہے تو انکی تعلیم کرنی چاہیے۔ لہذا ان کے آباؤ اجداد میں بھی اشراف ہیں۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

مختار

۲۸۰

لہذا نقل انہوں نے تصغیر میں کہ انکو پس اور کوئی عقل یا عقلیت تو بھی نہیں رہنا انہیں اپنے جاہل باپ داداؤں کی تعلیم کی

بِرَاءَةٍ قَاتِعِدُونَ ۝ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَاتَّه سَاهِدِينَ

بیزوں کو تم بوجھے ہوئے ہے تو میں بری ہوں۔ مگر اُسکو (پوچھا ہوں) جسے تم کو پیدا کیا اور میں اسے شہید کرتا ہوں

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اور اسی (اعتقاد) کو اپنی اولاد میں اُنہوں نے یادگار کے طور پر چھوڑا تاکہ وہ اُسکی طرف رجوع کرتے رہیں۔

بَلْ مَتَّعْتُ هُوَ لَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَ

لیکن میں ان کو اور ان کے باپوں کو کتنے ہی نعمتیں بخشا تا رہا بیان تک کہ ان کے پاس حق اور کھلا رسول

رَسُولٌ مُّبِينٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَسَاءَ

آگے۔ اور جب ان کے پاس حق آگیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کھدرا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے

بِهَ كُفْرُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ

یقیناً شکر ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر

مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۝

کیوں نہ نازل کیا گیا؟ آیادہ تمہارے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا

ہم نے زندگی دنیائی میں ان کے مابین انکی روزی تقسیم کر دی ہے اور ہم نے ان کے

بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَخِرَ لَكَ

ایک کو دوسرے سے بدرجہا بڑھا دیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کا مذاق بنایا کریں

وَرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَلَوْ لَانَ يَكُونُ

اور تمہارے پروردگار کی رحمت ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں کہیں بہتر ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی ہوتا

النَّاسُ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِيُؤْتِيَهُم

پہنچاتے تو ہم ان کے لیے جو (ضائع) رحمن کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں بھی

سَقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝ وَلِيُؤْتِيَهُم

چاندی کی بنلویتے اور وہ زینے بھی ان پر وہ چڑھتے ہیں۔ اور ان کے مکانوں کے دروازے

میں سے آگ لگاتی ہے اور ان کے گھروں کی چھتیں بھی

میں سے آگ لگاتی ہے اور ان کے گھروں کی چھتیں بھی

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'مذکر' (Muzkar) heading and various commentary on the verses.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the title 'الزخرف' and other text.

بہت سے لوگ اس آیت کو سمجھنے میں تامل کرتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی طرح بنو گے تو تم کو اللہ کی طرف سے بڑی نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی طرح بن جاتے ہیں، ان کو بڑی نجات دے گا۔

الہیہ ۲۱۷۰ بحسب مکتوبہ سے درینہ لیا گیا ہے۔ (۷۸۵) وَأَنَا مَنَّتُ مَنَّاتٍ مِّنْكَ عَلَىٰ طَبِيبٍ الرَّحْمَنِ

أَبُو آبَا وَسِرًّا عَلَيْهَا يَتَكَوَّنُونَ ۚ وَذُرْفَاءُ وَإِنْ كُلُّ

ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ

رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۚ وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ

نَقِصُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۚ وَإِنَّكُمْ لَيَصُدُّكُمْ

عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۚ حَتَّىٰ

لِذَا جَاءَ نَا قَالِ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

فَيَسُّ الْقَرِينُ ۚ وَكُن يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ

أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۚ أَفَأَنْتَ لَسَمِعَ الضَّرْمَ

أَوْ تَهْدِي لِعَمِي وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ وَأَمَّا نَذِيرٌ

بِكَ فَأَنَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ۚ أَوْ نَرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ

فَأَنَا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ۚ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ

لَكَ إِنَّهُ بِحُجَّتِكَ لَأَكْبَرُ ۚ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ

لَكَ إِنَّهُ بِحُجَّتِكَ لَأَكْبَرُ ۚ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ

لَكَ إِنَّهُ بِحُجَّتِكَ لَأَكْبَرُ ۚ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ

لَكَ إِنَّهُ بِحُجَّتِكَ لَأَكْبَرُ ۚ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ

لَكَ إِنَّهُ بِحُجَّتِكَ لَأَكْبَرُ ۚ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ

یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو دہرائی گئی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی طرح بنو گے تو تم کو اللہ کی طرف سے بڑی نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی طرح بن جاتے ہیں، ان کو بڑی نجات دے گا۔

یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو دہرائی گئی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی طرح بنو گے تو تم کو اللہ کی طرف سے بڑی نجات ملے گی۔

یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو دہرائی گئی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی طرح بنو گے تو تم کو اللہ کی طرف سے بڑی نجات ملے گی۔

وَأِنَّهُ لَعَلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرَنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا

اور بیشک وہ قیامت کی شناخت ہے پس تم ڈرا اسکے بارے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کی جاو۔

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَصِدَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ

یہی راستہ سیدھا ہے۔ اور شیطان تم کو روک نہوے یقیناً وہ تمہارا

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ

کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ ان کے پاس کھلی دلیلیں لیکر آئے تو فرمایا کہ میں ضرور

جنتکم بِالْحِكْمَةِ وَلَا بَيْنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ

تمہارے پاس حکمت (شریعت) لیکر آیا ہوں اور اس لیے کہ جن جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو میں تم کو

فِيهِ فَاَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ

بعض کو تمہارا پروردگار ہے اور میری اطاعت کرو۔ بیشک اللہ ہی تمہارا پروردگار بھی ہے اور

فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ

تمہارا پروردگار (بھی) تمہاری ہی راہ سیدھی ہے۔ پس گروہ (گروہ) آپس میں

الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ

مختلف ہو گئے تو جو لوگ درو تاگ دن کے عذاب سے سہڑتائی کرتے ہیں ان کے

يَوْمِ الْيَوْمِ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ

یہے افسوس ہے۔ کہا وہ اسی کے منتظر ہیں کہ قیامت آگے آئے اور وہ

بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ الْاِخْلَافُ يَوْمَئِذٍ يَوْمِئِذٍ

اُس سے بے خبری رہیں۔ دوستی رکھنے والے اُس دن ایک دوسرے کے

لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝ يَعْبَادُ لِكُلِّ قَوْمٍ سُلُوكًا

دشمن ہونگے متقی اس سے مستثنیٰ ہیں۔ (مذہباً ایک کہ) اے سیر بندو! آج نہ تم کو (آئندہ کی بابت)

الْيَوْمِ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا

کوئی خوف ہو اور نہ تم (گرتے کی بابت) رنجیدہ ہو گے۔ جو لوگ ہماری نشانیوں پر ایمان لائے تھے

یہاں پر کئی کئی نسخے لکھے گئے ہیں جو اس آیت کے تفسیر میں آئے ہیں اور ان کے معنی بھی لکھے گئے ہیں۔

یہاں پر کئی کئی نسخے لکھے گئے ہیں جو اس آیت کے تفسیر میں آئے ہیں اور ان کے معنی بھی لکھے گئے ہیں۔

یہاں پر کئی کئی نسخے لکھے گئے ہیں جو اس آیت کے تفسیر میں آئے ہیں اور ان کے معنی بھی لکھے گئے ہیں۔

ملائک

وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۝ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ

اور فرما نبرد ار ہے تھے۔ ان سے کہا جائیگا کہ تم اور تمہاری ازواج جنت میں چلے جاؤ گے

مُخْرُونَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَ

تمہاری عزت کھائے ان کے سامنے سونے کی رکابیاں اور گوزے دوز کے طور پر

أَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ

لائے جائیگی اور ان میں وہ چیزیں ہوں گی جلودل چاہیں اور دین سے آنکھیں نہ آئیں

وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا

اور تم ان (جنتوں) میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہو گے۔ اور یہی جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا

سبب وارث کیے گئے ہو۔ اس میں تمہارے لیے بہت کی میوے ہوتے جن میں سے

تَأْكُلُونَ ۝ إِنَّ الْجَرْمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِمٍّ خَالِدُونَ ۝

تم کھاتے رہو گے۔ یقیناً گنہگار عذاب جہنم میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔

لَا يَفْتَرِعْنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مَبْسُوتُونَ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

انکے عذاب میں کوئی سستی نہ کی جائیگی اور وہ اس (جہنم) میں دیوس ہو جائیں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا

وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادُوا بِمَلِكٍ لِّيَقْضِ

لیکن وہ (اپنی حق میں) آپ ہی ظالم ہوئے۔ اور وہ آواز دینے لگے کہ اے مالک ہا کاش تیرا

عَلَيْنَا رَبُّكَ ۝ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ لَقَدْ جِئْتَكُمْ

پر درگاہ ہمارا تھانہ ہی کر دے (مالک جواب میں) کہہ گا کہ تمہیں تو پونہی رہنا ہو۔ ہم یقیناً تمہارے پاس حق

بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِحَقِّ كَرِهُونَ ۝ أَمْ أَيْرِمْوْا

لیکر آئے لیکن تم میں سے حق سے نفرت کرنے والے ہیں۔ آیا تمہوں نے کسی بات کا

أَمْ قَاتِلْنَا مَلِكُمْ ۝ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرُسَهُمْ

جنت ارادہ کر لیا تو ہم بھی بجا ارادہ کرنے والے ہیں۔ یا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انکے جھپٹے کو اور غیبی باتوں کو

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'مکمل' written vertically.

Handwritten marginal notes at the top of the page.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page.

عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

درگزر اور کہو (لو بس) سلام۔ پھر آگے چل کر تو یہ جان ہی لیتے۔

سِوَةِ الدَّخَانِ مَكِيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن (و) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

حَمْدٌ ۙ وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۙ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ

حکم۔ تم ہے واضح کتاب کی۔ یقیناً مجھے اسکو برکت والی رات میں اتارا ہے

اِنَّا كُنَّا مُنذِرِيْنَ ۙ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ

کہ ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ ہر حکمت والا کام اسی (رات) میں مقدر کیا جاتا ہے۔

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۙ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۙ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ

یہ حکم ہماری طرف سے ہے ہم تمہارے رب کی طرف سے رحمت کر کے بھیجے والے ہیں

اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۙ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

شیک وہ بڑا سنتے والا (اور) جانتے والا ہے۔ جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے

وَمَا بَيْنَهُمَا ۙ اَمْ اَنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِيْنَ ۙ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ حَيٌّ

درمیان ہی اٹکا پروردگاری اگر تم یقین رکھنے والے ہو (تو مجھ لو کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہی ملائکہ

يَوْمِيَّتٌ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمْ ۙ اَوْلٰیئِن ۙ بَلَّغْتُمْ

اور وہی ہاتھ تیری تمہارا ہی پروردگاری اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا (بھی) لیکن وہ تو شک میں

شَاكٌ يَّلْعَبُونَ ۙ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ

پڑے کھلتے ہیں۔ سو تم (اس دن کا) انتظار کرو جس دن آسمان ایک ظاہر دھواں

مُبِيْنٍ ۙ يَغْشَى النَّاسَ ۙ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ رَبَّنَا

لا یجئنا جو کل آدمیوں کو ڈھانپ لیگا یہی تو دردناک عذاب ہے۔ (وہ عرض کرے گا کہ) ای ہمارا

بیت المعمور میں داخل ہونے کا یہی وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے۔

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰



عَنْهُمْ

بیت المعمور میں داخل ہونے کا یہی وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے۔

بہت سے لوگ اس آیت کو سمجھنے میں تامل کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہم نے کئی مقامات پر تامل کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہم نے کئی مقامات پر تامل کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہم نے کئی مقامات پر تامل کیا ہے۔

اَلْكَفَّ عَتَا الْعَذَابِ اِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝ اَتَى لَهُمُ

پروردگار ہم سے (اس) عذاب کو دور کر دے ہم یقیناً ایمان لائے ہیں۔ اب انہیں نصیحت کہاں

الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّبِيْنٌ ۝ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ

سے بل گئی؟ حالانکہ ان کے پاس کھول کر سنائیوا الرسول اچھا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو منہ پھیر لیا

وَقَالُوْا مَعْلَمٌ فَجُنُوْنَ ۝ اِنَّا كَا شِفُوْا الْعَذَابِ قَلِيْلًا

تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو کھمایا ہوا دوا ہے۔ ہم تو بڑے عرصے کے لیے عذاب دور کر لیا ہے اور

اِنَّكُمْ عَايِدُوْنَ ۝ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا

تم پھر وہی کر لو گے ہو جس دن ہم بڑی سے بڑی گرفت کریں گے اسی دن تو ہم بدلہ

مَنْتَقِمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ

لینے والے ہیں۔ اور ضرور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کی آزمائش کی تھی اور ان کے پاس

رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۝ اَنْ اذْ وَا لِيْ عِبَادٌ لِّلّٰهِ لِيُنذِرَكُمْ

ایک نیک رسول (ایک حکیم لیکر آیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو بیشک میں تمہارے لیے

رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ۝ وَاَنْ لَا تَقْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ لِيُنذِرَكُمْ

ایک ایسا نیک رسول ہوں۔ اور یہ کہ خدا کے برخلاف تمہارے پاس نیاں

بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَا لِيْ عَذٰبٌ يَّرِيْ وَرِيْكُمْ اَنْ

غلبہ کے ساتھ آیا ہوں۔ اور میں اپنے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی اس بات کو بناؤں گا کہ تم

تَرْجَمُوْنَ ۝ وَاِنْ لَّمْ تَوْمِنُوْا لِيْ فَاَعْتَزِلُوْنَ ۝ فِدَاعًا

کہ تم مجھ سے لڑ کر سکو۔ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ پھر اپنے پروردگار سے

رَبِّهٖ اَنْ هُوَ لَآءٍ قَوْمٍ مُّجْرِمُوْنَ ۝ فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ

دعا کی کہ گنہگار لوگ ہیں۔ (حکم آیا کہ) میں تمہارے بندوں کو راتوں رات

لِيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۝ وَاَقْرَبُ الْبَحْرِ رَهْوَ اِلٰهُهُمْ

لے جاؤ تمہارا پیچھا ضرور کیا جائیگا اور دریا کو تمہارا پھوڑ دینا یقیناً وہ

دفعہ اول

دفعہ دوم

تثانیۃ

سَلٰتٌ

بہت سے لوگ اس آیت کو سمجھنے میں تامل کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہم نے کئی مقامات پر تامل کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہم نے کئی مقامات پر تامل کیا ہے۔

وَجَدَ مُفْرَقُونَ ۝ كَمْ تَرَوْا مِنَ جَنَّتِ وَعُيُونِ ۝

شکر کے لشکر ڈوبنے والے ہیں۔ کتنے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور اچھے (اچھے)

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فَلَهِينَ ۝

مکان اور نعمتیں جن کا وہ لطف اٹھایا کرتے تھے چھوڑ گئے

كَذٰلِكَ ۝ وَاورثناها قومًا اخرين ۝ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ

ایسا ہی ہوا اگرچہ اور مجھے ان چیزوں کا وارث دوسرے لوگوں کو کر دیا۔ پس نہ ان پر آسمان

السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا

رویا اور زمین اور نہ ان کو ذمیل دی گئی۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل

بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝ مِنْ فِرْعَوْنَ ۝

کو فرعون کے ہاتھ سے ذلت دینے والے عذاب سے نجات بخشی

لَآ أَنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝ وَلَقَدْ اخْتَرْنَا لَهُمُ عَلَى

بیک فرعون زیادتی کرنے والوں میں سے شکر تھا۔ اور ہم نے دیدہ و دانستہ ان کو تمام عالموں

عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ آيَاتِنَا فِيهِ بِلَاقًا

سے برکزیہ کر لیا تھا اور ہم نے ان کو اپنی نشانوں میں سے وہ دی تھیں جن میں ہر

مُتَّبِعِينَ ۝ إِنَّ هُوَ لَأَقْوَمُ لَيَقُولُونَ ۝ لَإِن هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا

آگاہی تھی۔ یہ تو ضرور ہی کہتے ہیں کہ انجام کار ہماری پہلی ہی موت تو ہے

الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۝ فَأَتُوا بِآيَاتِنَا لَكُمْ

اور پھر ہم سوٹ نہیں کیے جائیں گے۔ پس آپ کو تم سے ہو تو ہمارے باپ دادا

صٰدِقِينَ ۝ أَهْمُ خَلْدٍ أَمْ قَوْمٌ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کو بلاؤ۔ آیا یہ اچھے ہیں یا بچ کے لوگ؟ اور وہ جو ان سے پہلے تھے

أَهْلِكْتُمْ زَانِحِينَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ

جن کو ہم نے ہلاک کر دیا یقیناً وہ گنہگار لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

اور اس وقت کہ شادمانی کا مقام ملے اور یہ ہر وقت ہے جو کسی اور درجہ کا مقام ملے جائیگی۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

اور اس وقت کہ شادمانی کا مقام ملے اور یہ ہر وقت ہے جو کسی اور درجہ کا مقام ملے جائیگی۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَ الْعَيْنِ ۝ مَا خَلَقْنَاهُمْ اِلَّا بِالْحَقِّ
 وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ
 مِيقَاتِهِمْ اَجْعَلِيْنَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْ مَوْلٰى
 شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ ۝ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ طَلَّةً هُوَ
 الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقٰوْمِ طَعَامٌ لِّلْاٰثِمِيْنَ ۝
 كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبَطْوٰنِ ۝ كَغَلِّ الْحَمِيْمِ ۝ خَلْوَةٌ
 فَاَعْتَلَوْا اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَاسِهِمْ
 مِّنْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ ۝ ذُقْ لِمَنْ لَّا يَذُقْ لِمَنْ لَّا يَذُقْ لِمَنْ لَّا يَذُقْ
 اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ ۝ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ
 اَمِيْنٍ ۝ فِيْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ ۝ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ
 وَاسْتَبْرَقٍ مُّتَقَبِلِيْنَ ۝ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ الْمُحْسِنِيْنَ

اور اس وقت کہ شادمانی کا مقام ملے اور یہ ہر وقت ہے جو کسی اور درجہ کا مقام ملے جائیگی۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

عَيْنٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أَمِينٍ لَا يَذُوقُونَ

نقص موت حوروں سے کر دیئے۔ وہ ان میں بچوں ہر طرح کی میوؤں کا طلب کرتے ہیں۔ پہلی موت کے سوا

فِيهَا الْمَوْتِ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ

ان (جنتوں) میں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں اور یہ تمہارے پروردگار کی عنایت ہی جو انکو عذاب

الْحَجِيمِ ۚ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

جنت سے بچانیکا یہی تو بڑی کامیابی ہے۔

الْعَظِيمِ ۚ فَاتَّمَايَسَّرْنَا لِسَانَكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

پس اور اگلے نہیں ہے کہ مجھے اس (قرآن) کو تمہاری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ۝

پس تم بھی انتظار کرو کہ یہ بھی منتظر ہیں۔

۷۹۵

سورة الجاثية مكية وهي سبع وثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رحمن (دو) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

تہم۔ اس کتاب کا آمارا زبردست حکمت والے خدا کی طرف سے ہوا ہے

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمَنِ مَنِينٌ ۝

بیشک آسمانوں میں اور زمین میں ایمان لانیوالوں کے لیے بہت سی نشانیاں (موجود) ہیں۔

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ

اور تمہاری پیدائش میں اور جننے زمین پر چلنے والوں کو وہ پھیلادیتا ہے ان کی پیدائش

يُوقِنُونَ ۚ وَأَخْتَلَفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ

میں ان لوگوں کو جو یقین لگتی ہیں نشانیاں (موجود) ہیں۔ اور رات اور دن کی آواز میں اور جو رزق اللہ نے

اللہ کی طرف سے ہر شے کی آواز ہے۔ اور جنتوں میں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں اور یہ تمہارے پروردگار کی عنایت ہی جو انکو عذاب سے بچائیکا یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ پس اور اگلے نہیں ہے کہ مجھے اس (قرآن) کو تمہاری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پس تم بھی انتظار کرو کہ یہ بھی منتظر ہیں۔

سورة



اللہ کی طرف سے ہر شے کی آواز ہے۔ اور جنتوں میں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں اور یہ تمہارے پروردگار کی عنایت ہی جو انکو عذاب سے بچائیکا یہی تو بڑی کامیابی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين

الحق بقرآن

٤٩٦

الجمادى الآخرة

۱۱۔ اے اللہ! تم نے یہ آیتیں قرآن مجید میں بھیج کر کئی قوموں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ تو اللہ کے رسول کو ماننے والے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَاهُ فِيهَا الْآرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

آسمان سے تمہارا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد پھر زندہ کر دیا ہے

وَتَصْرِيفَ الرِّيحِ ؕ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ

اس میں اور ہواؤں کو چلنے میں ان لوگوں کو جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں (موجود ہیں) یہ اللہ کی آیتیں

اللَّهِ نَتْلُو مَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ

ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک (پڑھ کر پڑھ کر) سناتے ہیں جس خدا کے اور اس کی آیتوں کے بعد یہ لوگ

آيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ۝ وَيَلِكُلُ الْكُلُ الْاٰثِمِيْنَ ۝ يَسْمَعُ آيَاتِ

کسی بات پر ایمان لائیں گے ہر اس جھوٹے گنہگار پر سب سے زیادہ انہوں سے ہے جو خدا کی آیتیں

اللَّهِ تُتَلَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُغْمَرُ مِنْهَا كَالْمَسْحَرِ اَنَّ كَان لَمْ يَسْمَعْهَا ؕ

اپنی آیتوں پر پڑھتے ہوئے سنتا ہے پھر انہوں نے انہیں گمراہ کر دیا ہے (اسی طرح امر اور نہی کی باتوں کو سنانے میں)

فَبِشْرَةِ الْعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ وَلَا ذَا عِلْمٍ مِّنْ آيَاتِنَا شَيْءًا تَخْذُوا

تو اب تم بھی انکو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اور جب اسکو ہماری آیتوں کا علم حاصل ہوگا وہ اللہ کی ہی

هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ مِنْ وَّرَائِهِمْ

اڑانا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت دینے والا عذاب ہے۔ (اور آگے ان کے جہنم

جَهَنَّمَ ۝ وَلَا يَغْنِي عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا

جہنم اور ان کے نہ تو وہ کچھ کام آئے گا جو انہوں نے کیا یا جو وہ کما یا پیسے (بشکرا اللہ کے سوا

عذاب

اللہ نے یہ آیتیں قرآن مجید میں بھیج کر کئی قوموں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ تو اللہ کے رسول کو ماننے والے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔

الْفَلَکِ فِیْهِ یَا مَرَّةٌ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ

کشتیاں ہاس کے طقم سے جیتی رہیں اور اس لیے کہ تم اس کے فضل کے خواستگار رہو اور تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس سب کو اس نے اپنے فضل سے بنا کر کامیاب کیا ہے۔ بیشک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں موجود ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو

مَنْهُ مَرَاتِنَ فِیْ ذَٰلِکَ لَا یَتَفَكَّرُونَ ۝ قُلْ لِلذِّیْنِ اٰمَنُوْا یَغْفِرُ اللّٰهُ لِحَسَنَاتِهِمْ لَیْجَزِیْ قَوْمًا مِّمَّا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ ۝ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلِیْہِمْ اٰزْمًا لِّمَّا لَیْ رَیْکُمْ تَرْجِعُوْنَ ۝

جو ایمان لائے ہیں یہ کہہ دو کہ وہ ان کو جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے معاف کر دیں گے خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو جیسا چاہا وہ کیا کرتے تھے اس کے بوجب خود مرزا دید گیا جو شخص کوئی نیکی کام کرے گا تو اپنی ذات کو نیکو کرے اور جو بدی کرے گا اس کا

کتاب و الحکم و الثبوت و رزقہم من الطیب و فضلہم فیصلہ اور نبوت عطا کی تھی اور پھر ان کو اپنی اچھی چیزیں کھانیکو دی تھیں اور ہم نے ان کو تمام

عَلِ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَ اٰتٰیہُمْ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَمَا اٰخْتَلَفُوْا ۝

عالموں پر نصیحت دی تھی۔ اور ہم نے ان کو امر و نہی کی کھلی دیکھیں عطا کی تھیں پس انہوں نے ہر امر متفق نہیں کیا اور ان کے پاس علم بھیج جائیکے بعد محض آپس کی سرکشی کے باعث بیشک تمہارا پروردگار قیامت کے دن انہیں

یَقْضِیْ بَیْنَہُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَمَا کَانَ وَاٰفِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلٰی شَرِیْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْہَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ

ہمیں ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے فیصلہ فرما دیا۔ پھر ہم نے

رَاسِیْ اَمْرٍ (دن کی شریعت پر تم کو مقرر کیا پس تمہاری کہہ بروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں کی

عَلِ الْعٰلَمِیْنَ اٰتٰیہُمْ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَمَا اٰخْتَلَفُوْا لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیَّ ۝

مختار

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ

پر روی نہ کرنا جو بے علم ہیں۔ یقیناً وہ اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے اور

وَأَنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

جیک یہ ظالم ایک دوسرے کے پار ہیں اور اللہ بہترین کاروں کا مددگار ہے۔

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

کل آدمیوں کے لیے یہ کھلی ویلیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ہدایت و رحمت ہی۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ

آیا وہ لوگ جو بدیاں کرتے ہیں انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انکو ان لوگوں کے مانند قرار دیں

أَمَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا جینا مرنا یکساں ہوگا جو حکم وہ لگا رہیں

يُحْكَمُونَ ۝ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَالْبُرُوجِ

بہت ہی بڑا ہے۔ اور اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو عرض صحیح سے پیدا کیا اور اس کو کہ نہیں

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ أَوْ عَتِيتُ مِنْ أَعْيُنِ

اپنے لیے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ آیا مجھے اس شخص کی حالت پر غور کیا

الرَّهَةِ هُوَ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے بھی جان بوجھ کر اس سے توفیق ہدایت سلب کر لی اور

وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشْمًا ۝ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا

اسی اسکا کون ہے اور دل پر پتھر لگا دی اور اسکی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا پس اللہ کی ہدایت کون کرے گا کیا تم

تَذَكَّرُونَ ۝ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا

تصیقت نہیں حاصل کرتے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری زندگی دنیا ہی تو ہے جس میں ہم مرتے جیتے ہیں

وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ

اور ہرگز زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرے گا حالانکہ انکو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے وہ تو ایمان

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'الکفر' written vertically. The notes contain various religious and philosophical reflections, such as 'اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کی توفیق دی ہے' and 'جو اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا'.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the word 'الجمالیہ' and other religious text.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, including the word 'الجمالیہ' and other religious text.

الْاٰیٰطُوْنَ ۝ وَاِذَا سْئِلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ جَهَنَّمَ

(دوڑایا) کہتے ہیں۔ اور جب ہماری عقل آئیں اُنکے سامنے ہم جی جاتی ہیں تو اُنکی جنت اسے سوا

الْاٰنَ قَالُوْا اَلَمْ نُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ اَللّٰهُ

او کچھ نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ وادرا کے اُوں تم یہ کہہ کر اللہ

بِحَبِيْبِكُمْ ثُمَّ يَمِيْعَتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ

ہی لے تم کو جنت دی ہے پھر وہی تم کو موت دیکھا پھر وہی قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے

فِيْهِ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلِلّٰهِ مُلْكُ

تم سب کو جمع کر لیا لیکن بت سے لوگ (اسی بات بھی) نہیں جانتے۔ اور آسمانوں کا اور

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَخْرُجُ

زمین کا اختیار اللہ ہی کو ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اسی دن جھٹلائیے

يَخْرُجُ الْمُبْطَلُوْنَ ۝ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جٰثِيَةً تَدْعُ كُلُّ اُمَّةٍ

نقصان اُٹھائینگے۔ اور تم ہر امت کو گھٹسوں کے بل گھڑا ہوا دیکھو گے۔ ہر گروہ اپنے اپنے

تَدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا الْيَوْمَ تُحْزَنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

نوشے کی طرف بلایا جائیگا اور اُن سے یہ کہا جائیگا کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے آج تم اس کا بدلہ پاؤ گے۔

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنبِئُ مَا

یہ ہمارا نوشتہ ہمارے برحلاف ٹھیک ٹھیک (گواری دیتا ہے) (جو جو) عمل تم کیا کرتے تھے

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

تم اس کو کہتے جاتے تھے۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل

فَيَدْخُلُوْنَ فِيْهَا بِرَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝

پہنچیں ہوں اُن کو تو اُنکا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کر لیا یہی تو وہ کھل کا میاں ہے۔

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَقْلَمْنَا نٰكِرًا لِّقَوْلِيْهِمْ يَتْلُوْا عَلٰى

اب رہے وہ لوگ جو کافر ہو گئے تھے (اُن کو یہ کہا جائیگا کہ) کیا میری آئیں تمہارے سامنے نہیں

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin.

Handwritten marginal note on the left side of the page, partially overlapping the main text.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۝ لَا يَسْمَعُ فِيهَا لَهُمْ مُسْمِعًا يُخَبِّرُ عَنْ آلِهِمْ وَلَا يَخَبَّرُ ۝ فِيهَا يَدُوعُونَ فِي نَارٍ غَالِيَةٍ تَلْقَوْنَ فِيهَا سَامِزًا مِّنْ قَبْلِهَا أُمَمًا لَّمْ يَأْتُواكُم بِلَاكُم وَلَا بِإِذْنِكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أُكْفِرُوا بِهِمْ مُّجْرِمُونَ ۝

الجزء ۱۰

الآیة ۱۰

فَأَسْتَكْبِرُ تَمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مَّجْرِمِينَ ۝ وَإِذَا قِيلَ

لَهُنَّ وَعَدَا اللَّهُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَأَرِيبٌ فِيهَا قُلْتُمْ مَا

نَدَّرِي مَا السَّاعَةُ لَأَنَّ نَظْرًا الْأَظْطَاؤَ مَا تَحْرُ

بِمَسْتَقِينٍ ۝ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ

بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ وَقِيلَ الْيَوْمَ

نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا لَكُمْ

بِالنَّارِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ۝ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَتَّخِذُونَ

آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَاءُ فَالْيَوْمَ

لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَهُ

الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۝ لَا يَسْمَعُ فِيهَا لَهُمْ مُسْمِعًا يُخَبِّرُ عَنْ آلِهِمْ وَلَا يَخَبَّرُ ۝ فِيهَا يَدُوعُونَ فِي نَارٍ غَالِيَةٍ تَلْقَوْنَ فِيهَا سَامِزًا مِّنْ قَبْلِهَا أُمَمًا لَّمْ يَأْتُواكُم بِلَاكُم وَلَا بِإِذْنِكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أُكْفِرُوا بِهِمْ مُّجْرِمُونَ ۝



وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۝ لَا يَسْمَعُ فِيهَا لَهُمْ مُسْمِعًا يُخَبِّرُ عَنْ آلِهِمْ وَلَا يَخَبَّرُ ۝ فِيهَا يَدُوعُونَ فِي نَارٍ غَالِيَةٍ تَلْقَوْنَ فِيهَا سَامِزًا مِّنْ قَبْلِهَا أُمَمًا لَّمْ يَأْتُواكُم بِلَاكُم وَلَا بِإِذْنِكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أُكْفِرُوا بِهِمْ مُّجْرِمُونَ ۝